

Psa

Chapter 108

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	שִׁיר	מִזְמוֹר	לְדָוִד:	נִכְוֹן	לִבִּי	אֱלֹהִים	אֲשִׁירָה	וְאֶזְמְרָה	אֶף-	כְּבוֹדִי:
	گیت	مزمور	داؤد کا	مستحکم ہے	میرا دل	اے خدا	میں گاؤں گا	اور زیور گاؤں گا	یہاں تک	میری روح
		H4210	H1732		H0430	H7891	H2167	H0637	H3519	

اُنہ! جاگ جان، میری اے گا۔ کروں سرائی مدح تیری کر بجا ساز میں ہے۔ مضبوط دل میرا اللہ، اے گیت۔ زیور۔ کا داؤد

2	עֹרָה	הַנֶּבֶל	וְכִנּוֹר	אֲעִירָה	שָׁחַר:
	جاگ	اے بربط	اور پن	میں جگاؤں گا	صبح کو
	H5782	H3658	H5782	H7837	

گا۔ جگاؤں کو صبح طلوع میں اُٹھو! جاگ سرود، اور ستار اے

3	אֹדָה	וּבְעַמִּים	יְהוָה	וְאֶזְמְרָה	כֹּל-	אֲמִים:
	شکر کروں گا تیرا	قوموں میں	یہوواہ	اور حمد کروں گا تیری	تمام	امتوں میں
	H3034	H3068	H2167	H1077	H3816	

گا۔ کروں سرائی مدح تیری میں اُمتوں ستائش، تیری میں قوموں میں رب، اے

4	כִּי-	נִדְוָל	מֵעַל-	שָׁמַיִם	חֶסֶדְךָ	וְעַד-	שְׁחָקִים	אֲמַתְךָ:
	کیونکہ	بڑی ہے	سے بڑھ کر	آسمانوں سے	تیری شفقت	اور تک	بادلوں تک	تیری سچائی
		H8064	H5704	H7834	H0571			

ہے۔ پہنچتی تک بادلوں وفاداری تیری ہے، بلند کہیں سے آسمان شفقت تیری کیونکہ

5	רִוְמָה	עַל-	שָׁמַיִם	אֱלֹהִים	וְעַל	כָּל-	הָאָרֶץ	כְּבוֹדְךָ:
	اونچا۔ بو	سے بڑھ کر	آسمانوں	اے خدا	اور پر	ساری	زمین پر	تیرا جلال
		H8064	H0430	H3605	H3519			

جائے۔ چھا پر دنیا پوری جلال تیرا ہوا سرفراز پر آسمان اللہ، اے

6	לְמַעַן	יִחַלְצֵנִי	יְרִידֶיךָ	הוֹשִׁיעָה	יְמִינֶךָ	וְעַנֵּנִי:
	تاکہ	چھڑائے جائیں	تیرے پیارے	بچا	اپنے دہنے ہاتھ سے	اور مجھے۔ جواب دے
	H4616	H3467	H3225			

پائیں۔ نجات ہیں پیارے تجھے جو تاکہ سن میری کے کر مدد سے ہاتھ دہنے اپنے

7	אֱלֹהִים	דָּבַר	בְּקִדְשׁוֹ	אֲעֲלֶזָה	אֲחַלֶּקָה	שָׁכֵם	וְעַמִּק	סִכּוֹת
	خدا نے	فرمایا	اپنی پاکیزگی میں	میں خوشی مناؤں گا	میں تقسیم کروں گا	سکم کو	اور وادی۔ ی	سکوت کی
	H0430	H1696	H6944	H5937	H7927	H6010	H5523	

اَمْتَد:

میں ناپوں گا

[H4058](#)

گا۔ دوں بانٹ کر ناپ کو سُکات وادی اور گا کروں تقسیم کو سکم بوئے مناتے فتح میں ہے، فرمایا میں مقدس اپنے نے اللہ

8	לִי	וּגְלֶעָד	לִי	מְנַשָּׁה	וְאֶפְרַיִם	מַעֲזוֹ	רֵאשִׁי	יְהוָה	מְחַקְקִי:
	میرا ہے	جلعاد	میرا ہے	منسی	اور افرائیم	قوت ہے	میرے سر کی	یہوداہ	میرا عصا
		H4519	H0669	H4581	H2710	H3063			

ہے۔ عصا شاہی میرا یہوداہ اور خود میرا افرائیم ہے۔ میرا منسی اور ہے میرا جلعاد

9	אָמּוּזָב	טוּר	רַחֲצִי	עַל-	אָדוּם	אֲשֶׁלֶךְ	נִעְלִי	עַל־	פְּלִשְׁתָּ
	מוֹאֵב	طشت-بے	میرے-دھونے-کا	پر	ادوم	میں-پھینکوں-گا	اپنی-جوئی	پر	فلسطين
	H4124		H7366		H0123	H7993	H5275		H6429

אָתְרוּעָה:

میں-فتح-کی-آوازیں-لگاؤں-گا
[H7321](#)

گا! لگاؤں نعرے زوردار پر ملک فلسطی میں گا۔ دوں پھینک جوتا اپنا میں پر ادوم اور ہے، برتن کا غسل میرا موآب

10	מִי	יְבִלְנִי	עִיר	מִבְּצָר	מִי	נָחֲנִי	עַד-	אָדוּם:
	کون	مجھے-لے-جائے-گا	شہر-میں	مضبوط	کون	مجھے-لے-گیا	تک	ادوم
	H4310	H2986		H4013	H4310	H5148	H5704	H0123

گا؟ پہنچائے تک ادوم مجھے کے کر راہنمائی میری کون گا؟ لائے میں شہر بند قلعہ مجھے کون

11	הָלֵא-	אֱלֹהִים	זִנְחָתָנּוּ	וְלֹא-	תִצָּא	אֱלֹהִים	בְּצַבְאֹתָיִנוּ:
	کیا-نہیں	اے-خدا	ٹوڑے-چھوڑ-دیا-ہمیں	اور-نہیں	نکلے-گا	اے-خدا	ہمارے-لشکروں-کے-ساتھ
	H3808	H0430		H3808	H3318	H0430	

ہیں۔ نکلتی لئے کے لڑے وہ جب دیتا نہیں ساتھ کا فوجوں ہماری ٹو اللہ، اے ہے۔ کیا رد ہمیں نے ٹو گو ہے، سکتا کر یہ ہی ٹو اللہ، اے

12	הָבֵה-	לָנוּ	עֲזָרָת	מִצָּר	אֲשׁוּא	תְּשׁוּעָת	אָדָם:
	دے	ہمیں	مدد	دشمن-کے-خلاف	اور-بیکار-ہے	نجات	انسان-کی
	H3051		H5833		H7723	H8668	H0120

ہے۔ کار مدد انسانی وقت اس کیونکہ دے، سہارا ہمیں میں مصیبت

13	בְּאֱלֹהִים	נִעְשָׂה-	חֵיל	יְהוּא	יְבוּס	צָרֵינוּ:
	خدا-میں	ہم-کریں-گے	بہادری	اور-وہی	روندے-گا	ہمارے-دشمنوں-کو
	H0430		H2428	H1931	H0947	

گا۔ دے کچل کو دشمنوں ہمارے وہی کیونکہ گے، کریں کام زبردست ہم ساتھ کے اللہ